

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Time: 10 Minutes | Paper Math 6 (T-1) | Total Marks: 10 |
| 3rd Month, 3rd Week, 2nd Day | | Exercise 7.1 Q # 3 |

Q.1. Choose the correct options. (1 x 5 = 5) درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) Which of the following is the equation? درج ذیل میں سے کون سی مساوات ہے؟

| | | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|
| (a) $4x + 2$ | (b) $7x - 5$ | (c) $3p + 2 = 8$ | (d) All تمام |
|--------------|--------------|------------------|--------------|

(ii) Identify the expression: جملے کی نشاندہی کریں:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (a) $7x + 8 = 10$ | (b) $2x - 7y = 4$ | (c) $3x + 2y + 7$ | (d) Both a & b اور a اور b دونوں |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|

(iii) Identify the equation: مساوات کی شناخت کریں:

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| (a) $4x + \frac{1}{3}y + 1$ | (b) $2x + 3 = 8$ | (c) $75 - 8$ | (d) $2m + 5 + 3n$ |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|

(iv) Identify the expression: جملے کی نشاندہی کریں:

| | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|------------------|
| (a) $2x - 7$ | (b) $\frac{x}{3} = 3$ | (c) $4x = 24$ | (d) $x - 18 = 2$ |
|--------------|-----------------------|---------------|------------------|

(v) Which of the following is the equation? درج ذیل میں سے کون سی مساوات ہے؟

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| (a) $x - 18 = 2$ | (b) $4x + n = 10$ | (c) $x + 7 = 10$ | (d) All of these یہ تمام |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.2. Identify the following as an equation or expression. (1x5=5)

(i) $\frac{3}{4}x - 5 = 4x$

(ii) $7p - 5$

(iii) $\frac{2}{3}p + \frac{1}{3} = q + 6$

(iv) $4x + 5y = 5x - 3y + 3$

(v) $4x + \frac{1}{3}y + 1$

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Time: 10 Minutes | Paper Math 6 (T-1) | Total Marks: 10 |
| 3rd Month, 3rd Week, 2nd Day | | Exercise 7.1 Q # 3 |

Q.1. Choose the correct options. (1 x 5 = 5) درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) Which of the following is the equation? درج ذیل میں سے کون سی مساوات ہے؟

| | | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|
| (a) $4x + 2$ | (b) $7x - 5$ | (c) $3p + 2 = 8$ | (d) All تمام |
|--------------|--------------|------------------|--------------|

(ii) Identify the expression: جملے کی نشاندہی کریں:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (a) $7x + 8 = 10$ | (b) $2x - 7y = 4$ | (c) $3x + 2y + 7$ | (d) Both a & b اور a اور b دونوں |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|

(iii) Identify the equation: مساوات کی شناخت کریں:

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| (a) $4x + \frac{1}{3}y + 1$ | (b) $2x + 3 = 8$ | (c) $75 - 8$ | (d) $2m + 5 + 3n$ |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|

(iv) Identify the expression: جملے کی نشاندہی کریں:

| | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|------------------|
| (a) $2x - 7$ | (b) $\frac{x}{3} = 3$ | (c) $4x = 24$ | (d) $x - 18 = 2$ |
|--------------|-----------------------|---------------|------------------|

(v) Which of the following is the equation? درج ذیل میں سے کون سی مساوات ہے؟

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| (a) $x - 18 = 2$ | (b) $4x + n = 10$ | (c) $x + 7 = 10$ | (d) All of these یہ تمام |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.2. Identify the following as an equation or expression. (1x5=5)

(i) $\frac{3}{4}x - 5 = 4x$

(ii) $7p - 5$

(iii) $\frac{2}{3}p + \frac{1}{3} = q + 6$

(iv) $4x + 5y = 5x - 3y + 3$

(v) $4x + \frac{1}{3}y + 1$